

World's Oldest and Most Diversified Producers of Organic & Non GM Conventional Rice Based Sweeteners, Polyols and Protein Concentrates.

Ref No.: HRPL/2023/143

June 16, 2023

The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi.

Sub: Notice for Cancellation of Extra Ordinary General Meeting

Dear Sir,

Enclosed find a copy of the Notice for Cancellation of Extra Ordinary General Meeting to be held on Monday, June 26, 2023 at 11:00 a.m. at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium Hall, D-31/8, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi.

We have attached herewith the Press clipping published in Business Recorder English and Daily Express Urdu on June 16, 2023 in respect of the Extra Ordinary General Meeting of Habib Rice Products Ltd. for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Chief Financial Officer

Thanking you,

Yours Faithfully,

For: Habib Rice Products Ltd.

Ali Asghar Rajani Company Secretary

Encl: As Stated Above

C.C. to:

1. Securities & Exchange Commission of Pakistan, Islamabad.

2. Head of Operations, Central Depository Co. of Pakistan Ltd., Karachi.

3. Share Registrar: CDC Share Registrar Services Ltd., Karachi.

Plant:

Ahmad Habib Boulevard, Hub 90250, Baluchistan, Pakistan.

Phone: +92-853-363963 to 5, Fax: +92-853-371009, +92-21-38704754

Head Office: Email:

UBL Building, I.I Chundrigar Road, Karachi-74000, Pakistan. Phone: +92-21-32411887, Fax: +92-21-32414581 info@habibriceproducts.com, nisarmeghani@habibriceproducts.com

www.habibriceproducts.com

vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on Friday, June 23, 2023 at 10:30 AM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.igcpk.com for download.

June 16, 2023

FARHAN SIDDIQUE Company Secretary

Procedure for E-Voting:

- a. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who
 have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of June 15, 2023.
- b. The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- . Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- d. E-Voting lines will start from June 20, 2023, 09:00 a.m. and shall close on June 22, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/ she shall not be allowed to change it subsequently

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

(a) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on Registered Office of the Company Ibrahim Centre, 1 Ahmed Block, New Garden Town, Lahore or email at info@igc.com.pk one day before the Extra Ordinary General Meeting on June 22, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.



IBRAHIM FIBRES LIMITED

POSTAL BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeting to be held on Friday, June 23, 2023 at 10:30 AM at Avari Hotel, Lahore. UAN: +92 42 111-333-777 Website: www.igcpk.com

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	To a start of the
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	Sould be successification of
Additional information and enclosures (in case of representative of	hody cornorate cornoration and

federal Government)

Name of Authorized Signatory CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)

Resolution For Agenda Item No.2

To consider and, if thought fit, pass with or without modification, the following resolutions as special

Resolved:

"That the authorized share capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 5.000/- Billion to Rs.75.000/- Billion by creation of 7.000 Billion new ordinary shares of Rs.10/- each."

"Further Resolved:

"That the Memorandum and Articles of Association of the Company be and are hereby altered by substituting the figures and words of Rs. 5.000/- Billion divided into 500.000 Million ordinary shares of Rs.10/- each appearing in Clause V of the Memorandum of Association and Article 4 of the Articles of Association with the words and figures of Rs.75.000/- Billion divided into 7.500 Billion ordinary shares of

Further Resolved:

"That the ordinary shares when issued shall carry equal voting rights and rank pari passu with the existing ordinary shares of the Company in all respect/matters in conformity with the provisions of the Companies Act. 2017."

Further Resolved:

"That the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized jointly and severally to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid resolutions.

Further Resolved:

Approval of the members of the Company be and is hereby accorded that "the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to declare and issue fully paid bonus shares as determined by the Board of Directors from unappropriated profits or reserves of the Company.".

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (v) the relevant box

In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as "Rejected".

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick $(\sqrt{})$ mark in the appropriate box below;

Resolution	L/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 2		

- Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Ibrahim Centre, I Ahmed Block, New Garden Town, Lahore or email at info@igc.com.pk
- 2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- 3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Thursday June 22, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport (In case of foreigner).
 Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, tom, mutilated, over written poll paper will be rejected.
- 6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of
- the Companies Act, 2017 as applicable. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.igcpk.com Member may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers

Date:

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp)

Karachi: Dated: June 15, 2023 (By the order of the Board) (Abdul Hussain Antaria) Company Secretary



Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited

NOTICE FOR CANCELLATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ("EOGM"

This is to inform the Shareholders of Ghandhara Tyre and Rubber Company Limited ("Company") that the Board of Directors has passed a resolution whereby it has decided not to increase the authorized share capital of the Company and the Board has withdrawn all agenda items of EOGM and have decided to cancel the said EOGM, which was scheduled on 22 June 2023 at 11:00 am at Karachi.

The determination of closed period for the said EOGM from 16 June 2023 to 22 June 2023, stands cancelled.

Karachi 16 June 2023

Yasir Ali Quraishi Company Secretary



Habib Rice Products IM.

nd Floor, UBL Building, I.I.Chundrigar Road, Karachi-740 Pakistan, Tel: +92-21-32411887 Fax: +92-21-32414581

Notice for Cancellation of xtraordinary General Meeting

This is to inform the Shareholders of Habib Rice Products Ltd. (the "Company") that a meeting of the Board of Directors of the Company held on June 15. 2023 at 11:00 am at Karachi, has passed a resolution whereby it has decided not to increase the authorized share capital of the Company and the Board has withdrawn the agenda items of Extraordinary General Meeting and have decided to cancel the said meeting which was scheduled to be held on June 26, 2023.

Karachi: June 16, 2023

Ali Asghar Rajani Company Secretary



Habib Sugar Mills Limited

NOTICE FOR CANCELLATION OF THE EXTRA-ORDINARY **GENERAL MEETING (EOGM)**

Notice is hereby given to the shareholders of Habib Sugar Mills Limited that the Board of directors of the Company has decided to cancel the Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the Company which was scheduled to be held on June 23, 2023.

By Order of the Board

Karachi: June 16, 2023

Imran Amin Virani Company Secretary

یعے پاکستان میں عام انتخابات کی یادد ہانی کروادی

درزوآپ مدان کے موالات کو در سرب ای کریں کے جنس نیب اخر نے کہا کہ مصالات میں موادی

بزحايا كيار بيلت

العاسة مع يدما مستان تك بلؤى كردى كل. 18/5 (1)) كآفاذ رجل جشر صافر أيجزل عن

ر المساحة المس المساحة المسا کے فیلوں گاف اور اور انتخاب کرنے ہاتی میٹر موسد و بھر میں آگارتھ کے درجے اور انتخاب کا میٹر موسد و بھر میں آگارتھ کے درجے اور ان کا کا انتخاب کا میں میں کی گل ں دیا جائے۔ جو سوف اہد ہاتی مان کا افاق کیرے وہ کی عراصہ کے اس کم ایشاں ا افاق کیرے وہ کی عزل نے کہا کہ دہ کے ساتھ بالے قدہ جس فیر افزار کے کارکھر ہاتی مان جائے قدہ جس فیر افزار نے کارکھر ہاتی مان عات عیاب میں میں اور انداز کا دارات مان میں اس کے سامنے زیر فور اندائی ساتہ فیصلہ 184 ہے۔ اندائی جزل کے لیا کہ بریم کوسٹہ آرکی 184 کی آئی تین سکاف کیس میں قانونی سوالت سے ساتھ ر سال کا کی این کو کور کو آگر انداز پایستان به این کا بر این موقع بے متواز پرتی کیلیے میکن سیکن سے آن اور کر کس واکوں سکام آکری مجرورت کی این کا این برید گریکاد فیمل سین سے کہا کہ کر این میں میز کے مثل ہوئے ماتون کا کا کی جائزہ کی ہے۔ ال کے خروری ہے۔ کر چھلے کاف اول کا کن وہ جاہے۔ اللہ خزار کے جانب میں اتھاے کے جسس نیب افتر کے فیصلے کا حال دیے ہوئے کہا کر گزشتہ کی دیائیں میں ے پیلی علی برائی کائی مان الدادس مان کے ا مسلم بی میز کو آیا ہے کمیں مصل سے مین کا تولیع کرنا جا ہے در میکان کرنا جائے کر در تھی وہا کہ ترق می اس کی جو کائی کو اور کا فوات القرائے میں میٹراز بالی مر م كون كرار كل 184 كون تين كروار پروہا کو مان کے حور میں کا بھا کا بھی کے اندازہ مان کو بر حدایا ہے جسٹس اجازہ اسٹن نے کہا کہ میں مانم ہے آریکل 184 کی گئی تھی کے دائرہ مانات کو کہے د حدایا کمیار چیلے جسٹس یا کنتان نے دیدائش دے کی بری کامیانی ہے جو پیکاراؤید سمین کے پاکریش طرح میزے کیٹشن میں بی کی آئی سے الاس کو دورات میں دائے والے الاروشنی وہا کے الاسکاس کرتے کیلے جو تراسم کی کئی سندھ یا لگورٹ میں اس سے مقاف ك العراض بيا الها بالراب قانون ملد بازى عن بعا يا الهاة رنكل 184 كي فق تمن كرقت فيط كفاف ال جادر المواد المواد

とういかにんしているかんかっちとし

دیے کہ آپ دوخواست کزار کا موافق جیس وہ کھنچ ہیں کہ آنگی ترجم کی جائے۔ تھر جائی کا دائر دکار بڑ صانا اورا کیل کے متر اوال آراد رینا الگ الگ ہے۔ آپ نے تقر جائی کا دوبارہ ماص جیسا بابنا ہے تھر شرد ماستان مارون ميد مراون المساوري والمساوري المراوري المراوري المراوي ا ري الالمارك ليدرت الولى التافتياركا PUBLIC NOTICE / PUBLIC BE CAREFUL



غيرمعمولى اجلاس عام كىمنسوخى كى اطلاع

ن يروذ كنس لمينله (دى " تمينى") كشيئر جولدُر ز كو بذر بعيه بلدا ا

دی بانی سے کو گئی کے بردا آف وائز گیز (کا جابار منتقدرہ اجون ۱۹۳۳ میگا ۱۰۱۰ میل کے کام کار ایک میل ایک قرار دار دھور کی گئی ہے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ گئی کے جائز شیخر کیٹر میں اصافی میں کیا جائے گا اور بدر ایم جمعری اجاب مام کے ایجنڈ آ کو سے دینچر دارہ کا لیا ہے۔ اپنیا آخر دواجاب کی اجساس کی کار فيسلك كاكياب جو٢٦ جون٢٠١ وكومنعقد كياجا فاقعار 3

يني تيريزي دفتر اسسئنٹ ڈائریکٹر (ڈبلیو ای اینڈ پی)

المريكتوريث آف وومن ديولپمنث ، وومن ديولپمنث دپارتمنث

م امامون کی تعداد

-2023 at 15. €U

کی معاونت کے فرائض اسن کاسرے نے سرانیام کی معاونت کے فرائض اسن کاسرے نے سرانیام بے سیکر بازی ملتم وقع پورڈ وسینٹر لاء آفیسر حکد لیمبر

ے۔ یو فیرسمول اجاس عام کے مطبقہ بھی بھس کی زرائی ہم 16 بھن 2023ء 23 بھن 2023 بھن 2023 میں 5 میں تھی۔ مشرق مصریدی۔

(منصوراته) کانی کریزی

عير جوائے ، محكم صحت سندھ نے چيز منPN كى بهناور بېنونى كفاف بنگای اقدامات کمل کرلیے

میسی بیرسری میری میری استان استان این استان استان این استان این استان این استان این استان استان این استان استان این استان استان این استان استان استان استان این استان ا سل كرك في الارتماعا المواحدة عند ما يستل كراك و التعالى المواحدة عند ما يستل كراك والتعالى المواحدة ا كراجي لريك حادثات عفرادجان بحق

لكى مروت وكيس اورتيل كى پيدا وارقبل ازونت شروع بوكني

S. CB SHORWERLY THE WILLIST کوری ارویس ریاستان بر بروان سیاس کا گرینگ حادث کے دوران 65 سالہ تان محمد جال بخش ہوگیا در مشکو خام کے مطابق ابتدائی طور پر حادث مطوم تیزر زائر گاڑ کا کی کی گرکا تا یاجا تا ہے۔

حارث رؤف ايس ؤي جيز

ليليه خيرسكالي سفيرنامزد

وف في بيت الإس كى كاردوا لى ديكمي

مال المقارع الرياد عدارة ري -(6 مار مودي فرز مفارج الرياد على المراج الرياد مودي وزي الرياد الرياد المراج المودي المراج المودي المراج المودي المراج المودي المراج المودي الرياد المودي المراج المودي الرياد المودي المراج المودي الرياد المودي المراج المودي المراج المودي المراج المودي المراج المودي المراج المودي المراج المودي الموادي ال الله المستخدمة المستخدمة المال المستخدمة ا المراجعة المساويات المساو

ب على المسائلة المسا As (10)

اب سیکریزی علم وقع بھا ویشتر لاہ آلیسر حکولی کے انگر چنگ ریت 18 ہے کے اصابات ہے وال اس الد شاہد کے کا کروان العصوب بال

表回多

سينچرى انشورنس كمپنى لميثد

اطلاع برائ منسوفي فيرمعمولي اجلاس عام

علان وى بياتى ب كريجارى الشورش كيلي لعائد ك بدرا الف داء يكثرو ف كلي كاليرم 23 ج ك 2023 وكوكول ك منظور الدوسر ما حرك الأصال ك من سليط عن منعقد او تا قد بسلوع الريال البعلة كا

الزامات هيقت پرجى، اينى كريش 1990 (آئی این بی) تر بدان تقد الفی کریش نے چیئر عن PT کسائولات پرائے دوگل عی کہا ہے کدان کی بجن اور جیونی کی گفاف الزامات حقیقت

ب کدان کی کارور پر بخوانی کافران الرائد و جمیعت بری می رود به ساز الزامات اید و فاقی که از هم همیت جوادی می به این کرد با رود کارور که با در همی می باز همیت خان ساز ایر 2002 شرور کارور کارور

3سای جماعتوں نے شمولیت کی دعوت دى جمودمولوى كادعوى

(13) ماندفون ماری از این می انتخاب روستان که می در در در که در این که در

ישושוני (14))

تام شود باین ایک مخصوص اولات کو دارگیند کرداد برس من بید سول فاد که در که د

مارکیٹ کو شدید متاثر کیا ہے۔ 70 تا 1000 فیصد تک بزیعنے والی قیمتوں کے سب قوت الرید میں انہاں کی

به یا تحتال ادارا و یک احتصاف کی فاده این این از دارای است به با تحتال ادارای است به موانا به آن اس که ۱۳ سال ادارای است به موانا به آن اس که در احتمال اور است به موانا به آن است که در احتمال اور است به موانا به آن است که در احتمال اور است به موانا به آن است که در احتمال است به موانا به آن است که در احتمال است به موانا به آن است که در احتمال است به موانا به آن است که در احتمال است به موانا به آن است که در احتمال است به موانا به آن است که در احتمال است به موانا به آن است که در احتمال است که در احتمال است به موانا به آن است که در احتمال است که د كاستعال عي اضافر ووالمنفوص آن الآن الموكاش الش 2021 عد 143 فيعد سنذ بإدوا شافر وور 13/1

اسلام آباد (شاتحده ایکیویی) پاکستانی او بخشانی او این که اداری کار برای کار کار برای کار ب

ہے۔ پاکستان اور امریکا کے تفاقات کی بنیاد یا ہی اور میں

50 كروز والرية جاوز كرميا فناجل دارب الا مرادر الرب المالية المرادر المرب المراد المرب المراد ال (16) برس کمینی

٠٤٠٠٤ (17)

و المحدد المساور المس

15/10 \$ 19)) 001842 x 26, 15, 16, 20.5 Control

ورونڈ آٹ کی ایرے کہ مقطر کھے ہوئے آیا نگاڈی ای می نے اس جائم فرام کا انتہاب سیب کے اشکار درال کلیدی شرائع کر کے واحد کا اس موضوع رفتی ہسینے

سانحہ 9 مئی یا کشتان کوکٹر ورکرنے کی سازش کا نتیجہ، بیٹوام اورفوج کے درمیان انتشار اور فاصلہ بڑھانے کامن

شرپیندوں کیخلاف قانونی کارروائی کی ، یا کستانی امریکین کانگریس ، 6 جنوری 2021 مووافشکشن ڈی ہی ہے۔

روایات اور اصولول کے دائرے میں رو کر کی گئے۔ قط میں 6 جوری 2021 مکودا فکشن ڈی

ا جاد اوا المراقع والمراقع والمراقع والمراقع والمراقع والمراقع والمراقع والمراقع والمراقع والمراقع والمراقع

جار باقعا كردورات شرب ورجة والها وعنول كي شاعت 28 سال والرك ما سيك كل عنول كوفر مان كي كول

گی جیدا سے دی ایس بی ایس نے ایک اوم آلار قار کرے چیدی کی گل موارسا کی گاری آمرکز کے رک

قا کرتریک اند

(23)

بادال بعد 18 دون کے ساتھ پیلیٹر پردسے۔ آخوں نے اس بھا وحدد دوسیالدات 33 دیار یا آزاک سر تا دیائی تھر 11 دوروں کے ساتھ دوسرے قبر پردیں۔ بعض نے اس بکار ہے اے ای، جس معرفی حرب،

یم ان کا کہناتی کہ قریک اضاف دور میں اور شرف کا بام دقان فرقدان کی سے امیرورڈ اور میں پر چنے والے جنتے چانسا آدی کوئٹی پر ممال رہے ہیں۔ فی ای ایم مکومت کے پاس ان پانٹری کا اید موس کر چینے میں کردتی قریم بر چنز رہ کی رائز کی گئی کاریز دی ہے۔ ((24) منانشرانی

ر کوری ہے۔ اگر موادہ فضل ارض کیتے ہیں کر اب قری فیس رہا تر جماعت کا عام مسان حرورہ ہارتی رتيس، ان كا كبنا قما كه مران خان . یای اصوادل کی جیاد پر ب ادراب می برقرار ب تقابات اداری فیس الحیاد صل الآل المراد الم مدالت نے تو ری فیصلے میں کہا ہے کد مخراور ڈپنی مخبرے ایکش کا شیار ول جاری او نے کے بعد منتوی لیس کیا جاسکتا دعیر کا ایکش منتوی کرنے سے متعلق

بعاصت اسلامی کی تھم امتاع کی در عواست مستر د کی مان کے اسلامی میں مان کا در واسط سروی بال ہے، عدالت نے بلد یاتی ترمیں ایک 2023 کفاف فریقین سے واداک طلب کر لیے، حمر ری ایسلے میں مدالت نے کہا کہ بلد یاتی ترمینی ایک لفلاف بصاحت اسلاي كي ورخواست منظور كي كي تو دراست میرادرا یی میرکا انتخاب کا اعدم قراره سنه گاه درخواست منفورگی جانے کی صورت می ہائے گا، در فواست منظور کی جانے کی صورت میں تیر اور ڈیٹی میر کا احقاب پرائے قانون کے اقت دوباره موكاء ايذ ووكيت جزل في موقف ويا تماك اسمیل کو قانون سازی کا پرداز فقیار مامش ب براه راست میریک اقتاب سے متعلق قانون سندھ اسمیل بے اطاق رائے سے متحور کیا اوکل گاورشٹ بزیمی یک میں 2023ء کی تاریخ عمامت اسازی کے مجرم سل نے بھی دوت ویا تھا، لوکل گورامنت ترمیمی

عال ش لوكيتر ك مرادة في كل الدائي مكان كيابر المن ش لوكيتر ك مرادة في كل الدائي مكان كيابر المن القواعد موجود فران الدي كل مرادع الله المرادع الله المرادع الله المرادع الله المرادع الله المرادع الله ا

كنثونمنث بورة كلفتن في كركوني كالموال مركاري عادم ويسالي 00 مار المرابع 10 مار مرابع المرابع ا وال عرب الماري التي محدث م المروى إلى عليان بادیش سان دوریده می می بینید چه رس می پریست پارش کی رکن معدید جادیدی کردهی دباب کورهی جو زیان چسل کی ادرانسوں نے مرتشی دباب کورهی جو کبرد دیاد آخویل نے میخرگرا کی سک انتخاب شن ان کی کیدویا تھوں کے میٹر کرون کے سکھوٹی میں میں کا کا میٹری پر ارائی فائل کر قد سے کہا کہ شدہ کے اس کا مدھ کے اس کا مدھ کیا کہ شدہ کے اس کا مدھ ک 364 9001 اد جود کتے ہے اسکول یا بار جرن، کیا اسکول ک حالت بہرے، انجیکٹن کا کبٹ برحاتا جارا ہے تعادے ہے اسکول ہے ابر جرن، پیٹرز بارٹی کماج عبداردیق نے اسکول ہے ابر جرن، پیٹرز بارٹی کے معراد

ر و استان میں جو بروہ وجہ عاصر تیار باسکان میں تکریم سے والے اس والان کی تی فرع کے اندیشی کی تی موسطے پر اپنی وصف کردیک از کاری کاری کر تھی کے

موف بڑار شداست کے کھاسپیدوں کا کارٹرٹ آ دوج کے کیے ہا یا جائے گا۔ مورود بڑکے عدم میں اور عمل دوائے کارز کے ان کا بات کی گی۔ تھرشا ا دوج کے کے مام مود کے دائے امید وادائ کی اسٹا او کارٹ ایک اسٹا اور

ەمنغطى... كنۇنمنىڭ تىزىكۇ قىس

كلفثن كنثونمنث

CMCHI /E III/PE\/7612/14

24 فیمدکا اضافہ ہوا ہے جو 56 فیمد سے بڑھ کر 70 فیمد پر آگیا ہے۔ سے کارہ بار ش 174.5 ارب دفتر میڈیکل سپرنٹنڈنٹ سی ایم سی اسپتال ،لاڑکانه "کرپشن کو کھیں نا

Dated: 13.06.2023

پی میزخشه و کے بہرے ایجان کومیڈ کیا واٹی ان ان کا کہنا تھا کہ موقعی واب کراچی کا ویٹ ہے اب اراچی کی تقریر ہوئے گی ، بعد اداں سندھ اسمالی کا ہائی جسدال ہیں تک شاق کراد چاکیا۔

((18) الميث لائف

فا ميزننگ بو

نثر عامر ولد پہو مستوعات و درگره سی ایم سی اسپتال ۱۷ ژکانه مستقل پنه : بلدیکی بستی علی گوهر آباد محله ضلع لاژکانه

عنوان: فائنل نوٹس

ر عام والدي اينيازي وركر بغيرتسي اطلاح اورقصت كي متقودي كيمودي 2022.16.01 سي البسيتك بزرع ع عِلْ طوري فيرماشرين اوراً بيكيان بين كوفى اخلاع الين ر کاد، آپ کو رول 4-4 طاکر پرجین سنده سول سرویشن (ای اینڈ وی) رائد 1973 کے رول 5 کے ویلی رول (3) کے اقت

CMCHL/E-111(PF)/2399 موري. 2022. 10.02 تحت طكاز تولس اور فأعل شكار تولس أور CMCHL/E-III(PF)4617/2 موراد 24.03.2022 جاری سے مجھ عندارت سے برطر فی اربوکا کی دوسکتا ہے۔ بھی آپ نے کوئی جوار ندى مقررهدت كالدروفر فراكوكي جواب جوانين كرايا اوراع في مسلسل فيرجاز خدر يرماخرين -

با كوبذر بعيد بقانونس بنداكي اشاعت كالمدرون جوده (14) يوم أيك مرجية اين برريورث كرنية اورغير مجاز طور برغير عاضرر ك كافتى الدريد جاريت كى جاتى ب يس عن الاى كامورت عن الدوسول مرويش (اى ايدوى) درار 1973 كامتعال شاق علاق المراجة مذكرد ياجانيكا جآب كى مركارى دادمت ، رطر في ارجوا كلى يومكا ب-ومنعظ ميذيكل برنتنذن

چانڈکا میڈیکل کالج اسپتال ،لاڑکانه پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ

401-40400 Last Payment w/5/45 500 14 14 5.1

2. استندا كاذنش آ فير 8001809-0321 0321-8023764-17-11-3

OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL PARISTAN REVENUES
SUR OFFICE, QUETTA

لک مارق ان کی موارف کے کے طبقہ کیا ہا ہے جو کہا ہے مصاببہ ڈیل کا کی وہری براے داموراست انتخاص اگر است کی بارا مسرب آخر کر کھنے کا جات اور انتخاص کی کھنے کر ڈافو اندو کا کھنے کے بدی گاگر کی ہے۔

اله مك الأن قارم (علية ولك عاقبه الأرادو).

س همن ين كي مح معلومات ك في ورياد ال أنورز يرواط أريل. 1. استنت كا وَعَلَى آ فِيرِ 8033036 و 0321

اطلاع برائے وفاتی پشنوز

الحرابطساق في ينتان سند بالزاع يشوان الذي في التي المستقد (DCS) يعظ

-351.852.1

استنت دار يمز (د بايواى ايد لي) ذائر يكنوريث آف ووسن الع لينت

المادل ا

ومن وع لينث وبارامنث

ملی کا معن کا این ما می کارد. امای کانام اللا نے کے اور اور کا قریم کریں۔ ایک در تواست کز ارکھ رف ایک امای کیلے در تواست و فی ایک در قواست گزارگوم رف ایک اسای کیلئا در قواست و بی ہے۔ پائھٹی اور مقرر دیار رخ کے بعد میصول اونے والی در قواست زیر قور قیس او کی جا سکی۔

مد في هوي الإي الأي الأي الأي الما يعال الما إن الما إن الما المناطقة وكورا المناطقة و 2022 0 20 مثال المناطقة والمناطقة والمناطة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمنا

يزه كلومكنا وكم الأكم اليك سال تجربه

الإسادة وكالعظامة

مرکاری یا لیس کے مطابق عمر میں رعایت الی جانگی۔ واک ان افزوج نر 26.06.2023 کو افزار روستگی عمد منتقد کے جانمی گ حمرکہ بادا عمد وادر کی ایک یا تمام اساس میں گوشتہ میں کشری کا منتقد حرف الى اور المارت السنة سكك سكك الميدواران كوائز ويحبط الما يؤجؤنك

PERSON

2

آيا(نياش ـ 01) 18-28

چکيار(نياکي۔01) 18-28